

مالی معاونت کی پالیسی کا خلاصہ

ہمارے مشن اور اقدار کے مطابق، Providence Health Services ادائیگی کی صلاحیت کا لحاظ کیے بنا تمام لوگوں کے لیے نگہداشت فراہم کرنے کے لیے پُر عزم ہے، مع ان لوگوں پر خاص توجہ دینے کے جو غریب اور مجبور ہیں۔ Providence Health Services مریض یا ان کے اہل خانہ کو ان کی نگہداشت کے متعلق مالی تفکرات کو حل کرنے میں مدد کرنے کے لیے مالی مشاورت اور معاونت فراہم کرتی ہے۔ ہماری معاونت کی پالیسیاں ہمارے مریضوں کے ساتھ ان کی مالی ذمہ داریوں کو حل کرنے کی خاطر اختیارات کی شناخت کرنے کے لیے نرمی اور نگہداشت کرنے کے اسلوب میں مل کر کام کرنے کے Providence Health Services کے جذبے کی عکاسی کرتی ہیں۔

کون اہل ہے؟

آپ مالی معاونت حاصل کرنے کے اہل ہو سکتے ہیں۔ مالی معاونت کا تعین عموماً آپ کی مجموعی گھریلو آمدنی کے وفاقی سطح غربت (Federal Poverty Level) کے ساتھ تقابل سے کیا جاتا ہے۔ اگر آپ کی آمدن FPL سے کم یا اس کے 250% کے مساوی ہے تو آپ اخراجات کے اس حصہ پر 100% خیراتی علاج حاصل کریں گے جس کے آپ ذمہ دار ہیں۔ اگر آپ کی آمدنی FPL کے 250% سے زیادہ ہے لیکن FPL کے 400% سے متجاوز نہیں ہے تو آپ تدریجی پیمانہ پر رعائیتی نرخ وصول کر سکتے ہیں۔ جو مریض مالی معاونت کے اہل ہیں ان پر اہل علاج کے لیے اس رقم سے زیادہ چارجز نہیں لگائے جائیں گے جو عام طور پر زیر بیمہ مریضوں پر عائد کی جاتی ہے۔

کون سی خدمات کا احاطہ کیا جاتا ہے؟

FAP کا اطلاق ہنگامی اور طبی لحاظ سے ضروری دیگر نگہداشت پر ہوتا ہے۔ ان شرائط کی وضاحت FAP میں کی گئی ہے۔ منتخب خدمات FAP کی جانب سے احاطہ کردہ نہیں۔

میں کیسے درخواست دے سکتا/سکتی ہوں؟

مالی معاونت کی درخواست دینے کے لیے، عموماً آپ کو ایک تحریری درخواست مکمل کرنا ہو گی اور معاونتی دستاویزات فراہم کرنا ہوں گے، جیسا کہ FAP اور FAP کی درخواست میں واضح کیا گیا ہے۔

میں درخواست کے حوالہ سے کیسے مدد حاصل کر سکتا/سکتی ہوں؟

FAP درخواست میں مدد کے لیے، آپ National Revenue Service Center (NRSC) Financial Assistance Representative سے 800-566-5050 پر رابطہ کر سکتے ہیں۔

میں مزید معلومات کیسے حاصل کر سکتا ہوں؟

FAP کی کنقول اور FAP درخواست فارم <http://www.provhosp.org/patients-guests> پر اور Patient Financial Counseling Office میں دستیاب ہے۔ مفت FAP کی نقول اور FAP درخواست کو NRSC Financial Assistance Representative سے 800-566-5050 پر درخواست کر کے ڈاک سے حاصل کیا جاسکتا ہے۔

اگر میں اہل نہیں ہوں تو کیا ہو گا؟

وہ مریض جو FAP کے تحت مالی معاونت کے اہل نہیں تو ہوسکتا ہے آپ دیگر اقسام کی معاونت کے اہل قرار پائیں۔ مزید معلومات کے لیے، براہ کرم NRSC Financial Assistance Representative سے 800-566-5050 پر بذریعہ فون رابطہ کریں۔

FAP کا ترجمہ اور FAP درخواست، اور یہ عام فہم زبان کا خلاصہ درخواست کرنے پر دستیاب ہیں۔